

# Lev

## Chapter 18

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1 וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל-  
اور-بولہ اور-بولہ اور-بولہ اور-بولہ اور-بولہ  
مُوسَى سے- سے- سے- سے- سے-  
کہتے-بوئے کہتے-بوئے کہتے-بوئے کہتے-بوئے کہتے-بوئے  
H0559 H4872 H0413 H3068 H1696

کہا، سے موسیٰ نے رب

2 דִּבֶּר אֶל-  
کہہ سے- سے- سے- سے- سے-  
בְּנֵי יִשְׂרָאֵל اسرائیل اور-کہہ اور-کہہ اور-کہہ اور-کہہ اور-کہہ  
אֶלְהֵיכֶם: تمہارا-خدا  
H0430 H3068 H0589 H0413 H0559 H3478 H0413 H1696

ہوں۔خدا تمہارا رب میں کہ بتانا کو اسرائیلیوں

3 כְּמִצְרַיִם אֶרֶץ-  
کاموں-جیسے زمین- مصر جس-میں  
אֲשֶׁר יֹשְׁבֹתֶיהֶם-  
رہے-تم- اس-میں  
בְּהָ<sup>א</sup> לָא תַעֲשׂוּ  
نہ کرو اور-کاموں-جیسے زمین-  
H0776 H4639 H3808 H3427 H4714 H0776 H4639

כְּעֵן אֲשֶׁר  
کنعان جس-میں میں لے-جا-رہا-ہوں  
אֲנִי  
میں لے-جا-رہا-ہوں  
מִבְּיֹא  
تمہیں وہاں  
אֲחֵכֶם  
میں وہاں  
לָא תַעֲשׂוּ  
نہ کرو اور-ان-کے-فرائض-میں  
וּבְחַקְתִּיהֶם  
اور-ان-کے-فرائض-میں  
לָא תִלְכּוּ:  
نہ چلو  
H3212 H3808 H2708 H3808 H8033 H0853 H0935 H0589

اُن ہوں۔ رہا جا لے تمہیں میں پاس کے جن گزارنا نہ زندگی بھی طرح کی لوگوں کے کنعان ملک تھے۔ رہتے تم میں جن گزارنا نہ زندگی طرح کی مصریوں اپنانا۔ نہ رواج و رسم کے

4 אֶת-  
کو- میرے-احکام  
מִשְׁפָּטַי  
میرے-احکام  
תַעֲשׂוּ  
کرو اور-کو-  
וְאֶת-  
اور-کو-  
חֻקְתִּי  
میرے-فرائض  
תִּשְׁמְרוּ  
ماننا  
לְלֶכֶת  
چلنے-کے-لیے  
בְּהֵם  
ان-میں  
אֲנִי  
میں  
יְהוָה  
یہوواہ  
H3068 H0589 H3212 H8104 H2708 H0853 H4941 H0853

אֶלְהֵיכֶם:  
تمہارا-خدا  
H0430

ہوں۔خدا تمہارا رب میں چلو۔ مطابق کے ہدایات میری اور کرو عمل پر احکام ہی میرے

5 וּשְׂמֹרְתֶם אֶת-  
اور-ماننا کو-  
חֻקְתִּי  
میرے-فرائض  
וְאֶת-  
اور-کو-  
מִשְׁפָּטַי  
میرے-احکام  
אֲשֶׁר  
جو  
יַעֲשׂוּ  
کرے  
אֲתֶם  
انہیں  
הָאָדָם  
آدمی  
וְחַי  
اور-جیے  
בְּהֵם  
ان-میں  
H2425 H0120 H0853 H4941 H0853 H2708 H0853 H8104

אֲנִי יְהוָה:  
میں یہوواہ  
H3068 H0589

ہوں۔رب میں گا۔ رہے جیتا وہ گا کرے یوں جو کیونکہ چلنا، مطابق کے احکام اور ہدایات میری

6 אִישׁ אִישׁ  
آدمی آدمی  
אֵישׁ אִישׁ  
آدمی آدمی  
אֶל-  
پاس-  
כָּל-  
کسی-  
נְשֵׂא  
رشتہ-دار  
בְּשָׂרוֹ  
اپنے-جسم-کے  
לָא  
نہ  
תִּקְרְבוּ  
جاؤ  
לְנִזְוֹת  
کھولنے-کے-لیے  
עֲרוּגָה  
برہنگی  
אֲנִי  
میں  
H0589 H6172 H1540 H7126 H3808 H1320 H7607 H3605 H0413 H0376 H0376

יְהוָה:  
یہوواہ  
H3068

ہوں۔رب میں ہو۔ نہ بستر ہم سے دار رشتے قریبی اپنی بھی کوئی سے میں تم

7	עֲרֻנָּה	אָבִיךָ	וְעֲרֻנָּה	אִמְךָ	לֹא	תִּגְלָהּ	הוּא	לֹא	תִּגְלָהּ
	برہنگی	اپنے-باپ-کی	اور-برہنگی	اپنی-ماں-کی	نہ	کھول	بے-وہ	نہ	کھول
	<a href="#">H6172</a>	<a href="#">H0001</a>	<a href="#">H6172</a>	<a href="#">H0517</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H1540</a>	<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H1540</a>

עֲרֻנָּה: ס  
اس-کی-برہنگی  
-  
[H6172](#)

ہونا۔ نہ بستر ہم سے اُس لئے اس ہے، ماں تیری وہ گی۔ جائے ہو بے حرمتی کی باپ تیرے ورنہ ہونا، نہ بستر ہم سے ماں اپنی

8	עֲרֻנָּה	אֶשֶׁת	אָבִיךָ	לֹא	תִּגְלָהּ	עֲרֻנָּה	אָבִיךָ	הוּא:	ס
	برہنگی	بیوی-کی-	اپنے-باپ-کی	نہ	کھول	برہنگی	تیرے-باپ-کی	بے-وہ	-
	<a href="#">H6172</a>	<a href="#">H0802</a>	<a href="#">H0001</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H1540</a>	<a href="#">H6172</a>	<a href="#">H0001</a>	<a href="#">H1931</a>	

گی۔ جائے ہو بے حرمتی کی باپ تیرے ورنہ ہونا، نہ بستر ہم سے بیوی بھی کسی کی باپ اپنے

9	עֲרֻנָּה	אֶחָוְךָ	בֵּת	אָבִיךָ	אָו	בֵּת	אִמְךָ	מִוְלָדָת	בֵּית	אָו
	برہنگی	اپنی-بہن-کی	بیٹی-	تیرے-باپ-کی	یا	بیٹی-	تیری-ماں-کی	پیدا-ہوئی	گھر-میں	یا
	<a href="#">H6172</a>	<a href="#">H0269</a>	<a href="#">H1323</a>	<a href="#">H0001</a>		<a href="#">H1323</a>	<a href="#">H0517</a>	<a href="#">H4138</a>		

מִוְלָדָת חוּץ לֹא תִגְלָהּ: ס  
پیدا-ہوئی باہر نہ کھول ان-کی-برہنگی  
-  
[H4138](#) [H2351](#) [H3808](#) [H1540](#) [H6172](#)

ہو۔ ہوئی پیدا اور کہیں یا میں گھر ہی تیرے وہ چاہے ہو، بیٹی کی ماں تیری یا باپ تیرے وہ چاہے ہونا، نہ بستر ہم سے بہن اپنی

10	עֲרֻנָּה	בֵּת	בִּנְךָ	אָו	בֵּת	בִּתְךָ	לֹא	תִּגְלָהּ	עֲרֻנָּה	כִּי
	برہنگی	بیٹی-کی-	اپنے-بیٹے-کی	یا	بیٹی-کی-	اپنی-بیٹی-کی	نہ	کھول	ان-کی-برہنگی	کیونکہ
	<a href="#">H6172</a>	<a href="#">H1323</a>			<a href="#">H1323</a>	<a href="#">H1323</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H1540</a>	<a href="#">H6172</a>	

עֲרֻנָּה הִנֵּה: ס  
تیری-برہنگی ہیں-وہ  
-  
[H6172](#) [H2007](#)

گی۔ جائے ہو بے حرمتی اپنی تیری ورنہ ہونا، نہ بستر ہم سے نواسی یا پوتی اپنی

11	עֲרֻנָּה	בֵּת	אֶשֶׁת	אָבִיךָ	מִוְלָדָת	אָבִיךָ	אֶחָוְךָ	הוּא	לֹא	תִּגְלָהּ
	برہنگی	بیٹی-کی-	بیوی	اپنے-باپ-کی	پیدا-ہوئی	تیرے-باپ-سے	تیری-بہن	بے-وہ	نہ	کھول
	<a href="#">H6172</a>	<a href="#">H1323</a>	<a href="#">H0802</a>	<a href="#">H0001</a>	<a href="#">H4138</a>	<a href="#">H0001</a>	<a href="#">H0269</a>	<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H1540</a>

עֲרֻנָּה: ס  
اس-کی-برہنگی  
-  
[H6172](#)

ہے۔ بہن تیری وہ ہونا۔ نہ بستر ہم سے بیٹی کی بیوی کی باپ اپنے

12	עֲרֻנָּה	אֶחָוְךָ	אָבִיךָ	לֹא	תִּגְלָהּ	שְׂאֵר	אָבִיךָ	הוּא:	ס
	برہنگی	بہن-کی-	اپنے-باپ-کی	نہ	کھول	رشتہ-دار	تیرے-باپ-کی	بے-وہ	-
	<a href="#">H6172</a>	<a href="#">H0269</a>	<a href="#">H0001</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H1540</a>	<a href="#">H7607</a>	<a href="#">H0001</a>	<a href="#">H1931</a>	

ہے۔ دار رشتے قریبی کی باپ تیرے وہ ہونا۔ نہ بستر ہم سے پھوپھی اپنی

13	עֲרֻנָּה	אֶחָוְךָ	אִמְךָ	לֹא	תִּגְלָהּ	כִּי	שְׂאֵר	הוּא:	ס
	برہنگی	بہن-کی-	اپنی-ماں-کی	نہ	کھول	کیونکہ-	رشتہ-دار	بے-وہ	-
	<a href="#">H6172</a>	<a href="#">H0269</a>	<a href="#">H0517</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H1540</a>		<a href="#">H7607</a>	<a href="#">H1931</a>	

ہے۔ دار رشتے قریبی کی ماں تیری وہ ہونا۔ نہ بستر ہم سے خالہ اپنی

14	עֲרֻת	אָחִי-	אָבִיךָ	לֹא	תְּנַלְּהָ	אֶל-	אֲשֶׁתוֹ	לֹא	תִּקְרָב	דְּרֹתָךְ	הוּא:
	برہنگی	بھائی-کی-	اپنے-باپ-کی	نہ	کھول	پاس-	اس-کی-بیوی	نہ	جا	تیری-چچی	بے-وہ
	H6172	H0251	H0001	H3808	H1540	H0413	H0802	H3808	H7126	H1733	H1931

ס

بے-چچی تیری بیوی کی اُس گی۔ جائے ہو بے حرمتی کی بھائی کے باپ تیرے ورنہ ہونا، نہ بستر ہم سے بیوی کی بھائی کے باپ اپنے

15	עֲרֻת	כְּלִתְךָ	לֹא	תְּנַלְּהָ	אֲשֶׁת	בְּנֵךְ	הוּא	לֹא	תְּנַלְּהָ	עֲרֻתָּהּ:	ס
	برہنگی	اپنی-بہو-کی	نہ	کھول	بیوی	تیرے-بیٹے-کی	بے-وہ	نہ	کھول	اس-کی-برہنگی	-
	H6172	H3618	H3808	H1540	H0802	H1931	H1931	H3808	H1540	H6172	

بے-بیوی کی بیٹے تیرے وہ ہونا۔ نہ بستر ہم سے بہو اپنی

16	עֲרֻת	אֲשֶׁת-	אָחִיךָ	לֹא	תְּנַלְּהָ	עֲרֻת	הוּא:	ס
	برہنگی	بیوی-کی-	اپنے-بھائی-کی	نہ	کھول	برہنگی	تیرے-بھائی-کی	بے-وہ
	H6172	H0802	H0251	H3808	H1540	H6172	H0251	H1931

گی۔ جائے ہو بے حرمتی کی بھائی تیرے ورنہ ہونا، نہ بستر ہم سے بھابی اپنی

17	עֲרֻת	אִשָּׁה	וּבְתֵּהָ	לֹא	תְּנַלְּהָ	אֶת-	בֵּת-	וְאֶת-	בֵּת-
	برہنگی	عورت-کی	اور-اس-کی-بیٹی-کی	نہ	کھول	کو-	بیٹی-	اور-کو-	بیٹی-
	H6172	H0802	H1323	H3808	H1540	H0853	H1323	H0853	H1323

הוּא	זְמַנָּה	הִנָּה	שְׂאֵרָה	עֲרֻתָּהּ	לְנִלּוֹת	תִּקַּח	לֹא	בְּתֵּהָ
بے-یہ	فحاشی	ہیں-وہ	اس-کی-رہتہ-دار	اس-کی-برہنگی	کھولنے-کے-لیے	لے	نہ	اس-کی-بیٹی-کی
H1931	H2154	H2007	H7608	H6172	H1540	H3947	H3808	H1323

بڑی کرنا ایسا ہیں۔ دار رشتہ قریبی کی اُس وہ کیونکہ ہے، منع ہونا بستر ہم سے نواسی یا پوتی بیٹی، کی اُس تو ہو سے عورت کسی تعلق جنسی تیرا اگر بے-حرکت ناک شرم

18	וְאִשָּׁה	אֶל-	אֶחָתָהּ	לֹא	תִּקַּח	לְנִלּוֹת	לְנִלּוֹת	עֲרֻתָּהּ	עֲלֶיךָ
اور-عورت	پاس-	اس-کی-بہن-کے	اس-کی-بہن-کے	نہ	لے	کھولنے-کے-لیے	کھولنے-کے-لیے	اس-کی-برہنگی	اس-پر
H0802	H0413	H0269	H0269	H3808	H3947	H1540	H1540	H6172	

בְּחַיֶּיהָ:

اس-کی-زندگی-میں

کرنا۔ نہ شادی سے بہن کی اُس جی جیتے کے بیوی اپنی

19	וְאֶל-	אִשָּׁה	בְּנֵית	שְׂמֵאָתָהּ	לֹא	תִּקְרָב	לְנִלּוֹת	עֲרֻתָּהּ:
اور-پاس-	عورت	ایام-میں	اس-کی-ناپاکی-کے	نہ	جا	کھولنے-کے-لیے	کھولنے-کے-لیے	اس-کی-برہنگی
H0413	H0802	H5079	H2932	H3808	H7126	H1540	H1540	H6172

بے۔ ناپاک وہ دوران اس ہونا۔ نہ بستر ہم میں دنوں کے ماہواری کی اُس سے عورت کسی

20	וְאֶל-	אֲשֶׁת	עַמּוּתְךָ	לֹא-	תִּתֵּן	שְׂכָבְתְּךָ	לְזָרַע	לְשִׂמְאָה-	בָּהּ:
اور-پاس-	بیوی	اپنے-پڑوسی-کی	نہ-	دے	اپنی-منی	نسل-کے-لیے	ناپاک-ہونے-کے-لیے	اس-سے	
H0413	H0802	H5997	H3808	H5414	H7903	H2233			

گا۔ کرے ناپاک کو آپ اپنے تو ورنہ ہونا، نہ بستر ہم سے بیوی کی مرد دوسرے کسی

שָׁם	אֶת-	תַּחֲלִיל	וְלֹא	לְמַלְאָה	לְהַעֲבִיר	תִּהְיֶה	לֹא-	וּמִזְרַעָךָ	21
نام	کو-	بے-حرمتی-کر	اور-نہ	مولک-کے-لیے	گزارنے-کے-لیے	دے	نہ-	اور-اپنی-نسل-سے	
<a href="#">H8034</a>	<a href="#">H0853</a>		<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H4432</a>		<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H2233</a>	

אֵלֶיךָ  
اپنے-خدا-کے  
אֲנִי  
میں  
יְהוָה:  
یہوواہ  
[H3068](#) [H0589](#) [H0430](#)

ہوں۔ رب میں گا۔ لگائے داغ کو نام کے خدا اپنے ٹو سے حرکت ایسی ہے۔ منع دینا جلا کے کر پیش پر طور کے قربانی کو دیوتا ملک کو بچے بھی کسی اپنے

וְאֵת-	זָכָר	לֹא	תִשְׁכַּב	מִשְׁכְּבִי	אִשָּׁה	תּוֹעֵבָה	הוּא:
اور-کو-	مرد	نہ	لیٹ	لیٹنے-سے	عورت-کے	مکروہ	بے-یہ
<a href="#">H0854</a>	<a href="#">H2145</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H7901</a>	<a href="#">H4904</a>	<a href="#">H0802</a>	<a href="#">H8441</a>	<a href="#">H1931</a>

ہے۔ گھن قابل حرکت ایسی رکھے۔ نہ تعلقات جنسی ساتھ کے مرد دوسرے مرد

וּבְכָל-	בְּהֵמָה	לֹא-	תִהְיֶה	שְׂכָבְתָךְ	לְטִמְאָה-	בָּהּ	וְאִשָּׁה	לֹא-	תַעֲמֹד
اور-کسی-	جانور	نہ-	دے	اپنی-منی	ناپاک-ہونے-کے-لیے-	اس-سے	اور-عورت	نہ-	کھڑی-ہو
<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H0929</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H7903</a>		<a href="#">H0802</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H5975</a>	

לְפָנַי  
کے-سامنے  
בְּהֵמָה  
جانور  
לְרַבְעָה  
جماع-کے-لیے-اس-کے  
תְּכַל  
گندگی  
הוּא:  
بے-یہ  
[H6440](#) [H0929](#) [H7250](#) [H8397](#) [H1931](#)

ہے۔ حرکت ناک شرم بڑی یہ ہے۔ منع کرنا ایسا بھی لٹے کے عورتوں گا۔ جائے ہو ناپاک ٹو ورنہ رکھنا، نہ تعلقات جنسی سے جانور کسی

אֶל-	תִּטְמְאוּ	בְּכָל-	אֵלֶיהָ	כִּי	בְּכָל-	אֵלֶיהָ	נִטְמְאוּ	הַגּוֹיִם	אֲשֶׁר-	אֲנִי
نہ-	ناپاک-ہو	کسی-سے-	ان	کیونکہ	سب-سے-	ان	ناپاک-ہوئیں	قومیں-	جنہیں-	میں
<a href="#">H0408</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H0428</a>	<a href="#">H0428</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H0428</a>	<a href="#">H0589</a>				

מִשְׁלַח  
نکال-ریا-ہوں  
מִפְנֵיכֶם:  
تمہارے-سامنے-سے  
[H6440](#) [H7971](#)

ریں۔ ہوتی ناپاک طرح اسی وہ گا نکالوں سے ملک آگے تمہارے میں قومیں جو کیونکہ کرنا۔ نہ ناپاک کو آپ اپنے سے حرکتوں ایسی

וְתִטְמְאוּ	הָאָרֶץ	וְנִפְקְדוּ	עֲוֹנָה	עָלֶיהָ	וְתִקָּא	הָאָרֶץ	אֶת-	יִשְׁבְּתֶיהָ:
اور-ناپاک-ہوئی	زمین-	اور-سزا-دی-میں-نے	اس-کی-بدکاری	اس-پر	اور-اگل-دیا	زمین-نے	کو-	اپنے-باشندوں
<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H5771</a>	<a href="#">H5771</a>	<a href="#">H6958</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3427</a>

دیا۔ اگل کو باشندوں اپنے نے اُس میں نتیجے اور دی، سزا سے سبب کے قصور کے اُس اُسے نے میں لٹے اس ہوا۔ ناپاک بھی خود ملک

וְשִׁמְרֶתֶם	אֹתָם	אֶת-	חֻקֹתַי	וְאֵת-	מִשְׁפָּטַי	וְלֹא	תַעֲשׂוּ	מַכְלָל	הַתּוֹעֵבֹת	הָאֵלֶּה
اور-ماننا	تم	کو-	میرے-فرائض	اور-کو-	میرے-احکام	اور-نہ	کرو	کسی-سے	مکروبات-	ان
<a href="#">H8104</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H2708</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H4941</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H8441</a>	<a href="#">H0428</a>	

הָאֲזֻרָח  
باشندہ-  
וְהִגֵּר  
اور-پردیسی-  
הִגֵּר  
جو-رہتا-ہے  
בְּתוֹכָם:  
تمہارے-بیچ-میں  
[H0249](#) [H1616](#) [H8432](#)

کریں۔ حرکت گھناؤنی کوئی ایسی پردیسی نہ اور دیسی نہ چلو۔ مطابق کے احکام اور ہدایات میری تم لیکن

כִּי	אֶת-	כָּל-	הַתּוֹעֵבֹת	הָאֵלֶּה	עֲשׂוּ	אֲנִישֵׁי-	הָאָרֶץ	אֲשֶׁר	לְפָנֵיכֶם	וְתִטְמְאוּ
کیونکہ	کو-	سب-	مکروبات	ان	کیا	لوگوں-نے-	زمین-کے	جو	تم-سے-پہلے	اور-ناپاک-ہوئی
<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H8441</a>	<a href="#">H0411</a>	<a href="#">H0411</a>	<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H6440</a>		

הָאָרֶץ:  
زمین  
[H0776](#)

ہوا۔ ناپاک ملک یوں تھے۔ رہتے میں ملک اس پہلے سے تم جو ہوئیں سے اُن باتیں گھن قابل تمام یہ کیونکہ

28	וְלֹא-	תָּקִיא	הָאָרֶץ	אֶתְכֶם	בְּתִמְאַכֶם	אֶתָּה	כְּאִשֶּׁר	קָאָה	אֶת-	הַגּוֹי	אֲשֶׁר
	اور-نہ-	اگل-دے	زمین-	تمہیں	جب-ناپاک-کرو-تم	اسے	جیسے	اگلا	کو-	قوم-	جو
	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H6958</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H0853</a>		<a href="#">H0853</a>		<a href="#">H6958</a>	<a href="#">H0853</a>		

لְפָנֶיכֶם:

تم-سے-پہلے  
[H6440](#)

دیا۔ اگل کو قوموں موجود پہلے سے تم نے اُس طرح جس گا دے اگل طرح اسی تمہیں وہ تو گے کرو ناپاک کو ملک بھی تم اگر لہذا

29	כִּי	כָּל-	אֲשֶׁר	יַעֲשֶׂה	מִכֹּל	הַתּוֹעֵבוֹת	הָאֵלֹהִים	וְנִכְרְתוּ	הַנְּפֹשׁוֹת	הָעֵשָׂת
	کیونکہ	بر-	جو	کرے	کسی-سے	مکروہات	ان	اور-کاٹ-دی-جائیں	جانیں-	کرنے-والی
		<a href="#">H3605</a>			<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H8441</a>	<a href="#">H0428</a>	<a href="#">H3772</a>	<a href="#">H5315</a>	

مִקְרָב  
بیچ-سے  
اپنے-لوگوں-کے  
[H7130](#)

جائے۔ مٹایا سے میں قوم کی اُس سے ایک سے میں حرکتوں گھناؤنی مذکورہ بھی جو

30	וְשָׂמַרְתֶּם	אֶת-	מִשְׁמַרְתִּי	לְבַלְתִּי	עֲשׂוֹת	מִחֻקֹּת	הַתּוֹעֵבוֹת	אֲשֶׁר	נַעֲשׂוּ	לְפָנֶיכֶם
	اور-ماننا	کو-	میرے-حکم	کہ-نہ	کرو	رسموں-سے	مکروہ-	جو	کی-گئیں	تم-سے-پہلے
	<a href="#">H8104</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H4931</a>	<a href="#">H1115</a>		<a href="#">H2708</a>	<a href="#">H8441</a>			<a href="#">H6440</a>

וְלֹא  
اور-نہ  
ناپاک-ہو  
ان-سے  
میں  
یہوواہ  
تمہارا-خدا  
:  
:  
:  
[H3808](#)

رب میں کرنا۔ نہ ناپاک کو آپ اپنے سے ان تھے۔ رائج پہلے سے آنے تمہارے جو اپنانا نہ رواج و رسم گھن قابل ایسے اور ربو چلتے مطابق کے احکام میرے ہوں۔ خدا تمہارا